





TAHRIK~E~JADID

A DIVINE CALL TO SACRIFICE



AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY

United States of America

جلدی ادا نیگی کریں

"مگر یاد رکھو کہ نیکی جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ آخر میں دیں گے بعض اوقات وہ دے ہی نہیں سکتے۔ بعض نے مجھے خطوط لکھے ہیں کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ بعد میں دے دیں گے مگر بد بختی سے ملازمت جاتی رہی یا آمد کے دوسرے ذرائع بند ہو گئے۔ پس یہ مت خیال کرو کہ سال کے آخر تک دے دیں گے جو لوگ آخر وقت نماز ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بھول بھی جاتے ہیں پس پہلے دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جو شخص آج دیتا ہے وہ اگلے دسمبر میں دینے والے سے ایک دن کا ثواب بھی معمولی نہیں کہ اسے چھوڑا جاسکے جو لوگ ایک دن ملازمت میں پہلے داخل۔ گیارہ ماہ قبل کا ثواب حاصل کرتا ہے ہوتے ہیں وہ ساری عمر سینئر رہتے ہیں اسی طرح یہ سمجھ لو کہ خدا کے انعام پہلے اس پر ہوں گے جو پہلے شامل ہوتا ہے سوائے کسی ایسی مجبوری کے جو خدا کے ہاں بھی مجبوری ہو لیکن وہ مجبوری نہیں جو انسان خود قرار دے۔"

(حضرت مصلح موعودؑ، خطبہ جمعہ، ۲۹ نومبر ۱۹۳۵ء)

Pay Early

“But remember, the sooner a virtue is carried out, the greater the reward. It has also been observed that some people assume they will contribute later, but sometimes they end up unable to do so. Some have written to me saying, ‘We had planned to donate later, but unfortunately lost our job, or other sources of income were cut off.’

So, do not think that you will give by the end of the year. Those who are in the habit of offering prayers at the last moment often forget altogether. Therefore, giving early carries greater reward. The person who gives today earns the reward of eleven months earlier than the one who gives in December. Even a single day's reward is not something to be taken lightly or missed.

Just as those who join a job a day earlier remain senior for a lifetime, similarly, know that the rewards of God are first granted to those who act first—except in a case of genuine compulsion, one that even God considers a valid excuse. But not the kind of excuse that a person merely declares for himself.”

(Hazrat Musleh Maud^{RA}, Friday Sermon, November 29th 1935)

جلدی ادائیگی کریں

"میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ تحریک جدید کا چندہ جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے اور ابتدائی مہینوں میں ہی ادا کر دینا چاہیے۔ مگر دوست اس کی ادائیگی میں پھر بھی غفلت سے کام لیتے ہیں"

(حضرت مصلح موعودؑ، خطبہ جمعہ، ۲۸ مارچ ۱۹۳۷ء)

Pay Early

“I have repeatedly drawn attention to the fact that the *Tahrik-e-Jadid* contribution should be paid as quickly as possible, ideally within the initial months. Yet, friends still show negligence in its payment.”

(Hazrat Musleh Maud^{RA}, Friday Sermon, March 28th 1937)

جلدی ادائیگی کریں

"پھر دنیا میں یہ قائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بینک کو قبل از وقت ادائیگی کر دیتا ہے تو اسے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے مثلاً اگر تیس جولائی کو رقم واجب الادا ہے اور وہ تیس جون کو ہی ادا کر دیتا ہے تو بینک اسے آٹھ آنے یا چار آنے سینکڑہ ڈسکاؤنٹ کاٹ کر بھیج دے گا۔ گویا اسے قبل از وقت ادائیگی کا منافع دے گا۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے جو شخص بروقت اور جلدی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ڈسکاؤنٹ اس کو ضرور دیتا ہے اگر بینک اپنے محدود مال کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ادا کرتا ہے تو یہ کیونکر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے اپنا وعدہ پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا وہ دے گا اور ضرور دے گا مگر وہ چاندی یا سونے کے سکے میں نہیں ہو گا بلکہ نور اور برکت کے صورت میں ہو گا۔"

(حضرت مصلح موعودؑ، خطبہ جمعہ، ۳۰ جون ۱۹۳۹ء)

Pay Early

“In the order of this world, we observe a principle: when one settles a due payment with the bank before its appointed time, he is granted a discount. For example, if a sum is due on the 30th of July, yet he discharges it on the 30th of June, the bank deducts a portion—eight annas or four annas per hundred—and thus returns to him the profit of his early payment.

So too is the way of Allah, the Exalted. Whoever hastens to fulfill his covenant with Him, faithfully and before its appointed hour, shall most assuredly receive his reward. If a bank, with its meagre and finite resources, does not withhold a discount, how then can it be imagined that the Lord of infinite treasures would deny it? Nay—He surely grants it. Yet His recompense is not in the form of silver or gold, but in the radiant wealth of light, blessing, and divine favor.”

(Hazrat Musleh Maud^{RA}, Friday Sermon June 30th 1939)

جلدی ادائیگی کریں

”تمہیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تم نیکی میں سب سے پہلے حصہ لینے والے بنو۔ اور اگر تم کسی وجہ سے پہلے حصہ لینے والوں میں نہیں آ سکتے تو کوشش کرو کہ درمیانی درجہ تمہیں میسر آ جائے اور اگر تم درمیان میں بھی شامل نہیں ہو سکتے تو اس کے بعد جس قدر جلد نیکی میں حصہ لے سکتے ہو لے لو اور کم سے کم تم یہ کوشش کرو کہ تم آخری آدمیوں میں سے مت بنو۔“

(حضرت مصلح موعودؑ، خطبہ جمعہ، ۹ جنوری ۱۹۴۲ء)

Pay Early

“You should strive to be the first to participate in good deeds. And if, for some reason, you cannot be among the very first, then try to at least attain a position among those in the middle ranks. And if you still cannot be counted among the middle group, then join in as soon as you possibly can. At the very least, make sure that you are not counted among those who are the last to take part in doing good.”

(Hazrat Musleh Maud^{RA}, Friday Sermon, Jan 9th 1942)